

50522- ہالینڈ میں بسنے والے رمضان کی ابتدا کن لوگوں کے ساتھ کریں؟

سوال

میں ہالینڈ میں رہائش پذیر ہوں، یہاں لوگ رمضان المبارک شروع ہونے میں اختلاف کرتے ہیں، کچھ لوگ تو مصر کی رویت کے مطابق روزہ رکھتے ہیں اور کچھ لوگ جزیرہ عربیہ کی رویت کے اعلان کا انتظار کرتے ہیں، لہذا صحیح موقف کیا ہے؟

پسندیدہ جواب

اول:

شرعی طور پر رمضان کا مہینہ چاند کی رویت کے بغیر داخل نہیں ہوتا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ کا فرمان ہے:

”چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی عید الفطر کرو“

صحیح بخاری حدیث نمبر (1909) صحیح مسلم حدیث نمبر (1081)

اور مہینہ کے شروع ہونے میں فلکی حساب کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہر ایک ملک کا مطلع دوسرے ملک کے مطلع سے مختلف ہے اور خاص کر ان دور کے ممالک کا مطلع تو اس طرح ان مطلع کے مختلف ہونے کوئی اختلاف نہیں ہے لہذا اس میں کسی کو بھی جھگڑنا نہیں چاہیے۔

بلکہ اختلاف تو اس بات میں ہے کہ آیا ایک ملک کے مطلع کا دوسرے ملک کے مطلع سے مختلف ہونے کو ماہ مبارک شروع ہونے میں کوئی اثر ہے یا نہیں۔

دوم:

غیر اسلامی ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کی اگر کوئی شرعی کمیٹی اور مجلس ہے جس پر وہ مہینہ کے شروع اور اختتام میں شرعی رویت ہلال کے بارہ میں اعتماد کرتے ہوں، تو مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ ان کے لیے یہ مجلس اسلامی حکومت کا درجہ رکھتی ہے، لہذا انہیں مہینہ کے شروع اور اختتام میں اس کی بات ماننا ہوگی۔

اس کی تفصیل آپ سوال نمبر (1248) کے جواب میں دیکھ سکتے ہیں۔

لیکن اگر ان کی کوئی شرعی کمیٹی اور مجلس نہیں تو ان کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ ثقہ حکومت کی پیروی کریں، جو کہ شرعی رویت پر عمل کرتی ہو تاکہ فلکی حساب و کتاب پر، تو اس طرح وہ اس حکومت کے ساتھ رمضان کی ابتدا اور عید الفطر مناسکتے ہیں۔

شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ سے مندرجہ ذیل سوال دریافت کیا گیا:

سپین میں بسنے والے مسلمانوں کا حرمین شریفین کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے متعلق کیا حکم ہے؟

تو شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جواب تھا:

”سپین میں رہتے ہوئے آپ نے ہمارے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور ہماری عید کے ساتھ عید الفطر منانے کا جو ذکر کیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

”چاند دیکھ کر روزہ رکھو، اور چاند دیکھ کر ہی عید الفطر کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو پھر تیس کی گنتی مکمل کرو“

اور یہ ساری امت مسلمہ کے لیے ہے،

اور حرمین کا علاقہ اور یہاں کی حکومت اقتدا پیروی کی زیادہ حقدار ہے، کیونکہ یہاں شریعت اسلامیہ نافذ ہے اور اس پر عمل کی مکمل کوشش اور جدوجہد کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس حکومت کو اور بھی زیادہ توفیق اور ہدایت سے نوازے۔

اور اس لیے بھی کہ آپ ایسے ملک میں
بستے ہیں جہاں کی حکومت اسلامی قوانین نافذ نہیں کرتی، اور وہاں کے باشندوں کو
اسلام کی کوئی پرواہ نہیں ہے ” انتہی

دیکھیں : مجموع فتاویٰ ابن باز رحمہ

اللہ (105/15).

اس مسئلہ کی مزید تفصیل دیکھنے کے

لیے آپ سوال نمبر (1226) اور

(12660) اور

(1602) کے جوابات کا مطالعہ ضرور کریں۔

واللہ اعلم۔